



بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی خواتین ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کا اعلان

- ہوم سیریز کے لیے نئی اور تجربہ کار کھلاڑیوں پر مشتمل اسکواڈ کا انتخاب کیا گیا، چیف سلیکٹر عروج ممتاز

لاہور، 23 اکتوبر 2019ء:

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی چیف سلیکٹر عروج ممتاز نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز 26 سے 30 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی جائے گی۔

مریدکے میں جاری قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کو حتمی شکل دی گئی۔ چیف سلیکٹر کی سربراہی میں کام کرنے والی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی 3 رکنی سلیکشن کمیٹی میں اسماویہ اقبال اور مرینہ اقبال شامل ہیں۔

عروج ممتاز، چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ:

چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش ویمنز کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد پر بے حد خوش ہیں، امید ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جون میں دورہ جنوبی افریقہ کے بعد یہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی پہلی اسائنمنٹ ہے، ہوم سیریز کے لیے نئی اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔

عروج ممتاز نے کہا کہ دنیائے کرکٹ میں خواتین کرکٹ کے مقابلوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے قومی خواتین کرکٹرز کو مثبت اور جارحانہ کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم کا بنیادی مقصد سیریزی میں کامیابی حاصل کرنا ہے تاکہ قومی خواتین کرکٹرز آئندہ میچوں میں پر اعتماد کرکٹ کھیل

سکیں۔ عروج ممتاز نے کہا کہ مستقبل کی تیاریوں کے پیش نظر سلیکشن کمیٹی نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں چند نئی کھلاڑیوں کو اسکوآڈ میں شامل کیا ہے۔

ٹی ٹوٹی اسکوآڈ:

بسمعہ معروف (کپتان)، عالیہ ریاض، سدرہ نواز، نابیدہ خان اور ٹیانہ بیگ، جویریہ خان، سدرہ امین، عائشہ ظفر، عمیمہ سہیل اور ارم جاوید، ثناء میر، صبا نذیر، سعدیہ اقبال، کائنات امتیاز اور انعم امین۔

ٹیم منیجمنٹ:

اقبال امام (عبوری ہیڈ کوچ)، عائشہ جلیل (منیجر)، جمال حسین (اسٹریٹھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ)، ڈاکٹر رفعت اصغر گل (فزیو تھراپسٹ) اور زبیر احمد (اینالسٹ)۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4